

## سوال

بعض خاندانوں میں بہت سے مرد اپنی بیوی یا بیٹی یا پھر اپنی بہن کو غیرمحرم مردوں مثلاً دوست و احباب اوررشتہ داروں کے سامنے جانے اوران کے ساتھ بیٹھنے اوران سے بات چیت کی اجازت دیتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے محرم ہوں ، جب ہم انہیں نصیحت کرتے اورسمجھاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی اوران کے خاندان اورآباء واجداد کی عادت میں شامل ہے ، اوران کا یہ بھی گمان ہے یہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں - کچھ تو ان لوگوں میں معاند ہیں اورکچھ متکبر ہیں حالانکہ وہ اس کے حکم کا بھی علم رکھتے ہیں اورکچھ لوگ اس کے حکم سے جاہل ہیں ، توآپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں ؟

## پسندیدہ جواب

الحمد لله.

پرمسلمان شخص پر واجب اورضروری ہے کہ وہ عادات اوررسم ورواج پر اعتماد نہ کرے بلکہ اسے شریعت مطہرہ پر پیش کرے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو اس پر عمل کرے اورجو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے ، لوگوں کا کسی چیز کی عادت بنالینا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں -

بلکہ لوگوں نے جتنی بھی اپنے خاندانوں ، قبیلوں ، ملکوں اورمعاشروں میں عادات اوررسم ورواج بنا رکھے ہیں انہیں کتاب اللہ اورسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنا واجب ہے ، جوکچھ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کیا ہو وہ مباح ہے اورجس سے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس پرعمل کرنا جائز نہیں اوراس کا ترک کرنا اورچھوڑنا واجب ہے چاہے وہ لوگوں کی عادت میں ہی کیوں نہ شامل ہو -

اورجب لوگوں نے کسی اجنبی عورت سے خلوت یا غیر محرم سے پردہ نہ کرنے کی عادت بنا لی ہو اوراس میں تساہل سے کام لیں تو ان کی یہ عادت باطل ہے اسے ترک کرنا واجب ہوگا ، اوراسی طرح اگر کچھ لوگ زنا یا پھر لواطت یا شراب نوشی اورنشہ کرنے کی عادت بنالیں تو ان پر بھی اسے ترک کرنا واجب ہے ، اورعادت ہونا ان کے لیے حجت اوردلیل نہیں بن سکتی -

بلکہ شریعت مطہرہ تو سب سے اوپر ہے اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے اسے اللہ

تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں شراب نوشی ، زنا ، چوری و ڈاکہ ، اور قطع تعلق اور قطع رحمی اور نافرمانی وغیرہ اور باقی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سے اجتناب کرنا اور دور رہنا چاہیے ، اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے واجبات کا التزام کرے ۔

اور اسی طرح خاندان والوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا احترام کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ سے دور رہیں اور اجتناب کریں ، اور جب ان کی عورتوں کی یہ عادت ہو کہ وہ غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتیں یا پھر ان سے خلوت کرتی ہیں تو انہیں یہ عادت ترک کرنی چاہیے بلکہ ان پر اسے چھوڑنا واجب ہے ۔

کیونکہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے چچا زاد ، خالہ زاد ، پھوپھی زاد ، یا بہنوئی یا پھر اپنے دیوروں ، اور اپنے خاوند کے چچا اور ماموں کے سامنے ننگے منہ پھرے اور پردہ نہ کرے ، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ ان سب سے پردہ کرے اور اپنے سر چہرہ اور باقی بدن وغیرہ کو چھپائے کیونکہ یہ اس کے غیر محرم ہیں ۔

اور رہا مسئلہ کلام یعنی سلام کے جواب اور سلام کرنا وغیرہ کا تو پردہ کے اندر رہتے ہوئے اور خلوت کے بغیر اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور جب تم نبی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو ، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے الاحزاب ( 53 ) ۔

اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا:

اے نبی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بیویو ! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ، اگر تم پر بیز گاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے ، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو الاحزاب ( 32 ) ۔

تواللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نرم لہجہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کریں تا کہ دل میں بیماری رکھنے والا یا پھر جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ یہ خیال کرنے لگے کہ کمزور ہے اور اسے کوئی مانع نہیں ۔

بلکہ اسے درمیانے لہجہ میں بات کرنی چاہیے جس میں نہ تونرمی ہو اور نہ ہی درشتی اور سختی ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ پردہ کرنا سب کے دلوں کی پاکیزگی ہے اور بہتر ہے ۔

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اے نبی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں ، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر وہ ستائی نہ جائیں گی ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے الاحزاب ( 59 ) -

جلباب ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر پر رکھا جائے جس سے سارا بدت چھپ جائے اور عورت اسے اپنے سر پر رکھ کر لباس کے اوپر سے اپنے سارے جسم کو چھپاتی ہے -

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے :

اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں ، اور اپنی زیب و آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو شہوت والے نہ ہوں ، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں --- النور ( 31 ) -

تو اس آیت میں مذکور اشخاص کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی -

تو سب مسلمان عورتوں پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زینت کے ظاہر کرنے سے ان پر حرمت کی ہے اس کے ظاہر کرنے سے بچیں اور انہیں غیر محرموں کے سامنے زینت کے ساتھ سامنے نہیں آنا چاہیے ..